

9 مارچ 2019، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، ریلیز برائے میڈیا

جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں یوم خواتین کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد



جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیا سیل کے تحت یوم خواتین کے حوالے سے ڈسکشن فورم کا انعقاد کیا گیا۔ فورم میں ویمن چیمبر آف کامرس کی صدر شایان ملک، صحافی شہناز رمزی، معروف مصنفہ تہمینہ عزیز، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی ڈین آف سرجری پروفیسر صغریٰ پروین، وائس چانسلر پروفیسر سید محمد طارق رفیع اور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر لبنی بیگ نے شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے شایان ملک کا کہنا تھا کہ خاتون ہونے کے ناطے انہیں ذاتی کاروبار شروع کرتے ہوئے مردوں کی جانب سے بھی مکمل تعاون حاصل رہا اور انہیں کبھی خاتون ہونے کی وجہ سے کسی امتیازی سلوک کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تہمینہ عزیز صاحبہ نے اس موقع پر خواتین کو ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے اور کسی کے منفی رویے کی پرواہ نہ کرنے کی تلقین کی اور ساتھ ہی بیگم رعنا لیاقت علی خان پر لکھی اپنی کتاب کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ صحافی شہناز رمزی نے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس زمانے میں انہوں نے دنیائے صحافت میں قدم رکھا خواتین کا اس شعبے میں آنا معیوب خیال کیا جاتا تھا تاہم وقت گزرنے کے ساتھ اس سوچ میں تبدیلی آئی ہے اور اب خواتین کی بڑی تعداد م میڈیا میں کام کر رہی ہے۔ جے ایس ایم یو کی ڈین آف سرجری پروفیسر صغریٰ پروین نے اس موقع پر بتایا کہ طب کے شعبے میں خواتین کو نہ پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اب اس صورتحال میں مزید بہتری آئی ہے۔ وائس چانسلر طارق رفیع اور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر لبنی بیگ نے اس موقع پر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور میڈیا سیل کی اس کاوش کو سراہا۔

مزید معلومات کے لیے: پبلک ریلیشنز آفس، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، فون: 02199205185، ایکسٹینشن، 1076،